



سوال

(489) کیا شوال کے 6 روزے عید کے فوراً بعد رکھے جائیں؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا شوال کے 6 روزے عید کے فوراً بعد رکھے جائیں یا جب دل کرے اور کیا کٹھے رکھے جائیں یا چھوڑ کر؟ (محمد امجد، میر پور)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بہتر ہے کٹھے اور متصل رکھے، اگر منفصل اور وقفے وقفے بعد رکھے تو بھی حدیث میں مذکور اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرے گا۔ البتہ ان کو شوال میں رکھنا ضروری ہے۔

[رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے چھ (نفلی) روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی مانند

ہے۔“ 2

2 صحیح مسلم کتاب الصیام باب استحباب صوم سبوا یام من شوال اتباعاً لرمضان، حدیث: 1163

قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل

جلد 02 ص 421

محدث فتویٰ